Notice of Extra Ordinary General Meeting

to be held on Wednesday, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.



Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

Ordinary Business

- 1) To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 28th October 2021.
- 2) To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 (Act) for a term of three years commencing from 22nd September 2022. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring on 21st September 2022 and eligible to file nominations are as under:

1. Mr. Asadullah Khawaja

2. Mr. Arif Habib

3. Mr. Sirajuddin Cassim

4. Mr. Nasim Beg

5. Mr. Samad A. Habib

6. Mr. Kashif A. Habib

7. Mr. Muhammad Ejaz

8. Ms. Zeba Bakhtiar

Any Other Business

3) To consider any other business with the permission of the Chair.

A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board

Manzoor Raza

Karachi: 31st August 2022 Company Secretary

NOTES:

- 1. Share transfer books of the Company will remain closed from 14th September 2022 to 21st September 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Tuesday, 13th September 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.
- 2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member
- Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A)
 Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of
 Pakistan:
 - (i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
 - (ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
 - (iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, NIC numbers and signatures.
 - (iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.
- 4. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).
- 5. Online Participation in EOGM: In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, in order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with shareholders.

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can

also participate in the EOGM proceeding via video link. Accordingly, those members who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate.affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2022' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. CDC Account No.	Cell No.	Email address

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

6. **Provision of Video Link Facility:** If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

7. **E-Voting / Voting by Postal Ballot :** If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

Important:

- 8. Contesting Election of Directors: Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:
 - (i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under

Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 89 of the Articles of Association of the Company.

- (ii) Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.
- (iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.
- (iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.
- (v) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
- (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
- 9. <u>Provision of Information by Shareholders:</u> To comply various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following:
 - Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption Certificate
 - Provision of valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any future cash dividends
 - Provision of details of previous unclaimed dividend, if any.
 - In case of a Joint account, shareholding proportions of Principal shareholder and Joint Holder(s)
 - Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
 - Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independent directors are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

- Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Form of Proxy

Extra Ordinary General Meeting

The Company Secretary Arif Habib Corporation Limited Arif Habib Centre 23, M.T. Khan Road, Karachi.

I/we_			of		being a member(s) o
Arif H	Arif Habib Corporation Limited holding		or	dinary shares as per CDC A/c. No	
		hereby appoin	t Mr./Mrs./Miss		of (ful
addres	′				6.11. 1.1. //
Mr./M					or failing him/he
			•	I, act vote for me/us and on my 21st September 2022 and/or	y/ our behalf at the Extra Ordinary any adjournment thereof.
Signed	d this	day of	2022		
Witnes	sses:				
1. N	lame :			_	a:
A	ddress :			_	Signature
C	CNIC No. :			_	Revenue Stamp
S	ignature :			_	
2. N	Jame :			_	
A	ddress :			_	

NOTES:

- A member entitled to attend and vote at the meeing may appoint another meber as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a memerb.
- 2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC / Passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
- 3. In order to be effective, the proxy Form must be received at the office of our Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signature, name. address and CNIC number given on the form.
- 4. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

23ءا یم ٹی خان روڈ کرا چی ۔ ۔	*	
عارف عبیب کار پوریش کمیشد عارف عبیب سینشر 23 ، ایم ٹی خان روڈ کرا چی ۔	غيرمعمولي اجلاس عام	
عارف عبیب کار پوریش کمیشد عارف عبیب سینشر 23 ، ایم ٹی خان روڈ کرا چی ۔	کمپنی سیکریٹری	
کرا پی ۔		
کرا چی۔	عارف حبيب سينثر	
	23، ايم ٽَي خان روڙ	
مين مشي المسماّةاكن	- کرا چی –	
	میں مسٹی / مسماً ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	ضلع

	گواہان: 2	گواهان: 1
دستخط ريوينيواسڻيمپ	نام:۔۔۔۔۔ن	نام:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر يوينيوا يم <i>پ</i> 	بـــ: تـــــــــــــــــــــــــــــــــ	پة::
	شاختی کارڈنمبرز۔۔۔۔۔۔	شاختی کارڈنمبر:۔۔۔۔۔
	وستخطأ: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	وتشخط:

نوك: ـ

يراكسي فارم

- ووژکن جے بیا جلاس یا اجلاس میں ووٹ کاحق حاصل ہے وہ کسی ناگزیر صور تحال میں اپنی جگہ کسی دوسرے (مخصوص) رُکن کو بیتق دے سکتا ہے کہ وہ رُکن اُس کی پراکسی استعمال کرتے ہوئے ،اُس کے بجائے اجلاس میں شریک ہوسکتا ہے ،خطاب کرسکتا ہے یاووٹ کا اندارج کرسکتا ہے۔
 - پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنااصل پاسپورٹ اور نولیونمبرد کھنالازی ہے تا کہ اجلاس میں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی شاخت کی جاسکے۔
- مؤثر بنانے کے لئے، پراکی فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر (ایم/الیس) ی ڈی ی شیئر رجسٹرار سر نمیٹیڈی ڈی ی ہاؤس، B-99، ایس، ایم، ی ، انٹی ، ایس،
 شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان، میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنے قبل وصول ہونالاز می ہے۔ فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رُکن کے دستخط اور مہر، نیز دوگواہان کی بنیادی معلومات یئن نام ہے، دستخط اور شاختی کارڈنم کر کا ندارج ضروری ہے۔
 - انفرادی رُکن صورت میں اصل اونراور پراکسی کے شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک کرنالازی ہے۔
- پراکسی کے کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائیر کیٹر کی قرار داد، پاورآف اٹارنی، شاختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیقی شدہ فقول، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس بذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریش کمیٹیڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز بدھ 21 متبر 2022 کوشام 4:30 ببج پاکستان اسٹاک ایمپینچ آڈیٹوریم،اسٹاک ایمپینچ بلڈنگ،اسٹاک ایمپینچ روڈ،کراپی میس بمعدالیکٹرونک ذرائع/وڈیولئک کی سہولت کے ساتھ مندرجہذیل امور کی انجام دی کے کئے منعقد کمیاجائےگا۔

عمومي امور:

- سالا نه اجلاس عام منعقده 28 اكتوبر 2021 كى كارروائي كى توثيق.
- 2) کمپنیزا یکٹ مجربیہ 2017 کی دفعہ 159 کی شقوں کے مطابق کمپنی کے ڈائز یکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 22 ستبر 2022 ہے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی جانب سے قابلِ انتخاب ڈائز یکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی جا چکی ہے۔ 21 ستمبر 2022 کوریٹائز ہونے والے موجودہ آٹھ ڈائز یکٹرز ، جودوبارہ تقرر کی کے اہل ہیں ، کے نام درج ذیل ہیں:

2- جنابعارف حبيب	1- جناب اسداللەخواجە
4- جناب نیم بیگ	3- جناب سراج الدين قاسم
6- جناب كاشف ال حبيب	5- جناب صمدا سے حبیب
8 محترمهزیبا بختیار	7- جناب محمداعجاز

ونگرامور:

3) چیئر مین کی اجازت سے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

کمپنیزا یک مجربه 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت اہم امور سے متعلق ایک بیانیوٹس ہذا سے منسلک کر کے صص یافت گان کوارسال کیاجارہا ہے۔

بحکم بورڈ منظوررضا ممپین سیریٹری

كرا جي 31:اگست2022

نوط

- 1- کمپنی کا منتقای حصص کی کتب 14 متبر 2022ء تا 21 متبر 2022ء (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی، ہمارے رجسٹرار میسرزی ڈی ٹی شیئر رجسٹرار ومز کمیٹنڈ کے دفتر واقع می ڈی ٹی ہاؤس، 99 نب، بلاک نبی ایس ایم ٹی اپنی ایس مین شاہراہ فیصل، کرا چی [AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL)] کومٹنگل 13 متبر 2022ء کو اختتا کا رتک موصول ہونے والی منتقلیا لی اجلاس بذرا میں شرکت اور رائے وہی کیلیئے حصص یا فتھان کے استحقاق کے تعین کیلیئے بروقت مجھی جا نمیں گی۔
- 2- اجلاس بنرامیں شرکت اور رائے وہی کا/کی اہل ممبراین جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسر مے مبرکواپنا پروکی مقرر کرسکتا/ کرسکتی ہے جمے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہول گے۔
- 3- سیکیورٹیزاینڈ ایکیپیٹی کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلزنمبر 1 ریفرنس نمبر 3 (5 اے) متفرق اے آ راد/ ایل ای ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:
-) ممبران، پراکسیوں یانامزدافرادکواپنی شاخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پراصل تو می شاختی کارڈیااصل پاسپورٹ پیش کرناہوگا اورا پنافولیونمبرہمراہ لاناہوگا۔
- i) کارپوریٹ ادار ہے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادا پاورآف اٹارنی اور نامز دفر دی قوی شاختی کارڈپا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگرپہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

- iii) مؤثر العمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور مہر شدہ اور دو گوا ہوں کے نام، پی**ۃ تو** می شاختی کار ڈنمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنے قبل AHCL شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے وفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔
 - iv) انفرادی صورت میں بینیفیشل اونراور پراکسی کے قومی شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیال پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہول گی۔
- ۷) کار پوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد/ پاورآف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔
- 4۔ ممبران سے درخواست ہے کہ بیتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے تحریری طور پر AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کوفوری مطلع کریں اور اپنے ہی این آئی تی کی کا بی فوری طور پر فراہم کریں۔
- 5- غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت: وبائی صور تحال کے باعث ایس ای بی پی نے کمپنیوں کو قصص یافت گان اورعوام کے تحفظ کیلئے معمول کے مطابق اجلاس عام کے انعقاد میں تبدیلی کی بدایات جاری کی بین البذا کمپنی اس غیر معمولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو بینی بنانے کے لیے ان کی بذات خود موجود گی کے ساتھ ساتھ دو ایونک کے ذریع شرکت کی سہولت فراہم کررہی ہے۔

کمپنی نے میہ ہندوبست بھی کیا ہے کہ تمام شرکا بشول شیئر ہولڈرز وڈیولنگ کے ذریعے اجلاس بذا میں شرکت کریں۔ آن لائن شرکت کے متمنی ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہذیل کوائف اور سی این آئی تک کی (دونوں اطراف) کا پی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے ''رجسٹریشن اے آئے تھی ایل۔EOGM 2022'' سے عنوان سے اجلاس بذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتا کیس (48) گھنٹی اس جسٹریشن کرالیں۔

ای میل ایڈریس	موبائيل نمبر	فوليونمبر/سي ڈیسی/ا کاؤنٹ نمبر	سى اين آئى سى نمبر	شيئرز ہولڈر کا نام

- EOGM میں شرکت کیلئے وڈیو لنک صرف ان ممبران کیلئے کھولاجائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی جصص یافتطان مذکورہ ای امیل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر 2706624-0311 پر اپنے ایجنڈہ آئیٹو کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کر بھتے ہیں۔
- 6- <u>ڈیونک سہولت کی فرہمی:</u> اگر کیپنی کواجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسر ہے شہر میں مقیم دیں فیصدیا زائد شیئر کہ ولڈرز کی جانب سے بذر ایعہ وڈیولئک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پروڈیولئک سہولت کا اہتمام کریگی۔
- بذریعه وڈیوانک احلاس میں شرکت کے متمٰی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب'' وڈیوانک فیسیلٹی فارم''پڑ کرکے کمپنی کے رجسٹرڈ پیۃ پر ارسال کردیں۔واضح ہو کہ مبریا پیروکسی کے علاوہ کوئی فردویڈ بولنک کانفرس میں شرکت کااٹل نہیں ہوگا۔
- 7- ای دوشگ بدرید و اگلی نیز رید و ایک نیز ایک مجریه 2017ء کی دفعه (1) 159 کے تحت ڈائر یکٹر کے انتخاب کے خواہشندا فراد تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں ممہنی این مہران کوا کی دوشک بدر اید ڈاک کی سہولت متعلقہ قوانین کمپینز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنر مجریہ 2018ء کے مطابق فراہم کرے گی۔
 وہ تھسمی یافتگان جو بذریعہ ای دوشک شرکت کے خواہاں ہیں برائے مہر بائی اپنے دستخط کردہ ایک خدا کے ذریعے ہے ، نام ، فولیو کی دی کی اکا وَنٹ نمبر ، ای میل ایڈریس ،

انهم:

رابطهٔ نمبر فی الفور AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کوفرا ہم کر دیں۔

- 8- <u>فالزیکٹرز کے امتخاب کا مقابلہ:</u> کوئی بھی فرد (بشمول ریٹائز ہونے والا ڈائر یکٹر) جو کہ ڈائر یکٹر کے استخاب کے لیے مقابلے کا خواہاں ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، عارف حبیب سینٹر، 23ایم ٹی خان روڈ مکرا چی میں نہ کورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت ڈائر مکٹران کے استخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزدگی مندر جہذیل دستاویزات کے ساتھ فراہم کردے:
- i- انتخاب الزنے کے لئے اپنے ارادے کے نوٹس کے ساتھ کمل پرُ شدہ اور دستخط شدہ فارم 28 جس میں منتخب ہونے پر بحیثیت ڈائر کیٹر کام کرنے کی رضامندی

- (زیردفعہ(1)167 کمپنیزا یکٹ 2017) اوراس کی بات کی تصدیق کہ وہ توانین وضوابط کے تحت ڈائر یکٹر بننے کے لیے ناامل نہیں ہے اور بیر کہ وہ کمپنی کے آرٹیکنر آف ایسوی ایشن کی شق 89 کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔
- ii- تفصیلی تعارف(پروفائل) مع دفتری پیټه جوکه کمپنی کی ویب سائٹ پرانتخاب سے سات روزقبل SECP کے SRO 1196(1)/2019 مورخه 3 اکتوبر 2019 کے تحت آویزال کرد ماجائے گا۔
- iii- اقرارنامہ کہوہ لیڈ کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گوننس)ریگولیشنز 2019 کے قواعد وضوابط پر پورااتر تا ہے اورلسٹڈ کمپینی کے ڈائر یکٹر (یا بطورآ زاد ڈائر یکٹر ،اگر قابل اطلاق ہو)کے حیثیت سے کام کرنے کے لیمپینزا یک 2017 کے طے کردہ معیاراہیت پر پورااتر تا ہے۔
 - iv قومی شاختی کارڈ (CNIC) اور این ٹیاین (NTN) کی تصدیق شدہ قال۔
 - ٧- آزاد دُائرَ يكثر (دُائرَ يكثرز) كالسارْ كمينيز (كودُ آف كاريوريث گورنس)ريگوليشنز 2019 كي ثق (3) 6 كيخت اقرار نامه ـ
 - vi- نان جوڈیشل اسٹامپ بیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیشن آف انڈ میپڈنٹ ڈائر کیٹرز) ریگولیشنز 2018 کی شق (1) 4 کی مطلوبات پر پورا اتر تا/اتر تی ہے۔
- 9- شیئر ہولڈرز کی جانب سے معلومات کی فراہمی: مختلف قوانین کی تعیل اور کسی بھی تانون کی عدم تعیل یا مستغبل میں کسی بھی تسم کی تکلیف سے بیخے کے لیے تمام شیئر ہولڈرز کے حالم اللہ معلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلومات کی متعلوم کردیں: کو متعلوم کردیں:
 - i درست می این آئی می/ این ٹی این سرٹیفکیٹ/زکوا ۃ استثنی سرٹیفکیٹ/ٹیک استثنی سرٹیفکیٹ کی فراہمی ۔
 - ii درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور ایم IBAN کی فراہمی تا کہ کمپینی مستقبل میں نقدمنا فعمنقسمہ کی ادائیگی کرسکے۔
 - iii گذشته غیر دعوی شده منافع مقسمه کی تفصیلات کی فراهمی _
 - iv جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پر پیل شیئر ہولڈراور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے شیئر ز کے درمیان تناسب۔
- ۷۔ فزیکل حصص کی اسکرپ لیس صورت میں تبدیلی ، جس سے حصص یافتیگان کو کئی انداز سے سہولت ملے گی جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید و فروخت اور دیگر کارپوریٹ کاروائیوں میں آسانی ہے۔
 - vi کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ 119ور کمپینز (جزل پرویشن اینڈ فارمز)ریگولیشن 2018 کی شق نمبر 19کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات کی فراہمی۔

كمپنيزا يك 2017 كى دفعه (3)166 كے تحت بيانيه

کمپینزا یک 2017 کی دفعہ 166 کے تحت ڈائر یکٹران کے انتخاب کے لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر بنی بیانیہ بھیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی جیثیت آزاد ڈائر یکٹر تقرری کا جواز بیش کیا جائے۔

بحیثیت اسٹر کمپنی، عارف حبیب کارپوریشن کمیٹرٹر کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں اسٹر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گومنس)ریگولیشنو 2019 کے تحت کم از کم دوآ زاد ڈائر کیٹرز ہوں لہذا کمپنی اس بات کویٹینی بنائے گی کہ کم از کم دوآ زادڈ ائر کیٹرز کمپنیزا یکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائر کیٹر کے انتخابی طریقہ کارکے مطابق منتخب ہوں۔

امیدواراں کی جانب سے انتخاب لڑنے کے اراد ہے کی درخواست کی وصولی کے بعد کمپنی آزاد ڈائر یکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کارا پنائے گی:

- ۔ امیدوارل کے نام کی SECP کے باضابط مجاز پاکتان انسٹیٹیوٹ آف کار پوریٹ گورننس (PICG) 'کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شمولیت۔
 - ۔ الیکشن لڑنے والےامیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں ، تنوع ،مہارت ، تعلیم اور تجربہ کی شخیص کی جائے گی۔
- ۔ ڈیٹا بینک ہے کسی کانام نتخب کرنے سے ٹل مپنی جامع شخیص کرے گی کہ ایکشن لانے والاامید وار کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 166 کے طے کرد و آزاد ڈائر یکٹر کے معیار پر بورااتر تاہے۔





Arif Habib Corporation Limited

Arif Habib Centre 23, M.T. Khan Road Karachi-74000 Tel: (021) 32460717-19

Fax: (021) 32429653, 32468117 E-mail: info@arifhabibcorp.com Website: www.arifhabibcorp.com

WORLD



BAGHDAD: IRAQ: Hundreds of Iraqi protesters run for cover on Tuesday, when security forces fire bullets and teargas at crowds.

Zelensky vows to 'chase' Russians to the border

NEWS DESK KYIV

As Ukraine ramps up its offensive to retake Russian-occupied territory in the country's south, its forces have regained four villages and broken through Russian defenses at multiple points of the frontline in the Kherson region, according to Ukrainian officials. Ukraine's President Volodymyr Zelensky also issued a warning to Russian forces during his evening address Monday, saying it was time for them to "run away, go home," and that "the occupiers must know we will chase them to the border." Yet one of his advisers cautioned that the operation will be a slow one, that would "grind the enemy." "This process will not be very fast," Oleksiy Arestovych, adviser to the head of the office of the President of Ukraine, said in a statement posted on Telegram late Monday, "but will end with the installation of the Ukrainian flag over all the settlements of Ukraine."

"[The Ukrainian Armed Forces] have broken through the frontline in several sectors," Arestovych said in a video interview posted on You-Tube, adding that Ukrainian forces were shelling ferry crossing points that Moscow is using to resupply Russian-occupied territory over the Dnipro River in the Kherson region.



PAKISTAN AERONAUTICAL COMPLEX BOARD KAMRA AIRCRAFT REBUILD FACTORY


SHORT TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from sales tax registered firms for procurement of Micronic Filters for Aircraft Refuelers. Tenders are to be addressed to Director Logistics, Aircraft Rebuild Factory, PACB Kamra Dist. Attock and must be deposited before 10:30 Hrs on date of opening.

S No.	Tender No. & Description of Stores	Time & Date of opening
(a)	ARF/PROV-002/2022-23 Procurement of Micronic Filters for Aircraft Refuelers	15-09-2022 1100 HRS

2. For further details please visit PPRA website www.ppra.org.pk and PAC website www.pac.org.pk.

DIRECTORATE OF LOGISTICS AIRCRAFT REBUILD FACTORY, PAC KAMRA (ATTOCK) CONT NO. 051-90992260



18 die as Madagascar police shoot at albino kidnap protesters: medic

AGENCIES ANTANANARIVO

Eighteen people died Monday after police in Madagascar opened fire on what they called a lynch mob angered at the kidnapping of an albino child, a senior doctor told AFP.

Dozens were wounded, some of them seriously. "At the moment, 18 people have died in all, nine on the spot and nine in hospital," said doctor Tango Oscar Toky, chief physician at a hospital in southeastern Madagascar.

"Of the 34 injured, nine are between life and death," said the doctor giving graphic details of the injuries. "We are waiting for a government helicopter to evacuate them to the capital".

Around 500 protesters armed with blades and machetes "tried to force their way" into the station, a police officer involved in the shooting said, speaking on condition of anonymity. "There were negotiations, (but) the villagers insisted," the officer told AFP over the phone from the town of Ikongo, 90 kilometres (56 miles) southeast of the capital Antananarivo. Police first fired teargas and then rounds in the air to try to disperse the crowd, he said.

"They continued to force their way through. We had no choice but to defend ourselves," the officer added.

Philanthropists are requested to donate generously. Nawa-i-Wagt Fund for Stranded Pakistanis in Bangladesh

23- Sharaey Fatima Jinnah, Lahore. A/C No.

Habib Bank Ltd. Lake

Road Branch, Labore.

QUIRANMALA ELECTRIC POWER CO. LTD.QUIRANMALA

ADDENDUM NO.1

STO-EPC-RT-03 for Design, Supply, Erection, Testing and ing of complete Grid Station (AIS) with construction of all Associated civil works for 132/11.5KV AIS Grid Station at City Housing Gujranwala on Turckey Basis to be opened on 30.08.2022 published in the daily "Khabrain" & "The News" on 29.07.2022 is hereby extended and note the tender will be opened on 15.09.2022 at 11.00AM PID(L)598

Chief Engineer (Dev.) PMU

PAKISTAN CRICKET BOARD

TENDER NOTICE

FOR PURCHASE OF 02X BAGGAGE SCANNER MACHINES

Pakistan Cricket Board (PCB), with its Head Office located at Gaddafi Stadium, Ferozpur Road invites sealed bids from eligible firms in accordance with applicable PPRA Rules on "Single Stage Two Envelope Procedure" for purchase of Two (2) Baggage Scanner Machines. The firms participating in the biddings process must have GST and NTN numbers.

A complete set of biding documents can be obtained free of cost, by interested firms from the PCB Security & Anti-Corruption Department located at PCB Head Office, Gaddafi Stadium, Lahore from Monday to Friday during office hours (09:00 a.m. to 05:00 p.m.).

The proposal shall be submitted latest by or before 16° September, 2022 at 1100 hrs. The technical proposals will be opened on same date at 1130 hrs and financial proposal of only those bidders/firms will be opened who shall qualify technically based upon scrutiny/assessment of technical credentials/evaluation criteria mentioned in the bidding documents.

The firms providing unsubstantiated and/or incorrect information are liable to be disqualified. The disqualified bidders will be informed the grounds of rejection only upon written query.

SR. MANAGER SECURITY & ANTI-CORRUPTION PAKISTAN CRICKET BOARD GADDAFI STADIUM, FEROZPUR ROAD LAHORE - PAKISTAN



Tel: 042-3571-7231-4, Fax: 042-3571-1860 Pokistan Cricket Board reserves the right, in its sale discretion, to concel or amend the bidding process at any stage and may reject any or all bids or proposals at any time prior to acceptance.

Shelling targets Baghdad's Green Zone amid deadly chaos after Sadr quits politics

BAGHDAD

Shelling targeted Baghdad's high-security Green Zone on Monday, a security source said, after Shiite cleric Moqtada Sadr said he was quitting politics, sparking chaos in which 15 of his supporters were killed.

Tensions have soared in Iraq amid a political crisis that has left the country without a new government, prime minister or president for months, and escalated sharply after Sadr's supporters stormed the government palace following their leader's announcement.

At least seven shells fell in the high-security Green Zone, which houses government buildings and diplomatic missions, the security source said late Monday on condition of anonymity.

It was not immediately clear who was behind the shellwhich was followed by the

sound of automatic weapons in the Green Zone.

The security source said Sadr's supporters opened fire at the Green Zone from the outside, adding that security forces inside "were not responding".

Tensions have soared in Iraq amid a political crisis that has left country without a new government

Shots were fired earlier in the fortified area, an AFP correspondent said, and medics said 15 Sadr supporters had been shot dead and 350 other protesters injured -- some with bullet wounds and others suffering tear gas inhalation.

Witnesses said earlier that

a rival Shiite bloc, the pro-Iran Coordination Framework, had exchanged fire. The Framework condemned an "attack on state institutions", urging the Sadrists to engage in "dialogue".

The army had announced a nationwide curfew from 7:00 pm (1600 GMT). Caretaker Prime Minister Mustafa al-Kadhemi said "security or military forces, or armed men" were prohibited from opening fire on protesters.

Calling the earlier developments "an extremely dangerous escalation", the United Nations Assistance Mission in Iraq (UN-AMI) urged "all" sides to "refrain from acts that could lead to an unstoppable chain of events".

The very survival of the state is at stake," it warned. The United States also urged calm amid the "disturbing" reports of unrest in Baghdad while France called on "the parties to exercise the utmost restraint" and "immedi-

ARIF HABIB CORPORATION LIMITED

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited ("the Company") will be held on **Wednesday**, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

ANY OTHER BUSINESS

Karachi: 31st August 2022

To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 28th October 2021.

- To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22nd September 2022. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring on 21nd September 2022 and eligible to
 - Mr. Asadullah Khawaja
- Mr. Arif Habib Mr. Nasim Beg
 - Mr. Sirajuddin Cassim Mr. Samad A. Habib

 - Mr. Kashif A. Habib Mr. Muhammad Ejaz Ms. Zeba Bakhtiar

To consider any other business with the permission of the Chair.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the pareholders along with this notice.

By order of the Board Manzoor Raza Company Secretary

Share transfer books of the Company will remain closed from 14th September 2022 to 21th September 2022 (both days inclusive).

Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-8, Block-8, S.M.C.H.S.,

Main Shahrah-e-Fabal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Tuesday, 13th September 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

Procedure including the guidelines as leid down in Circular No. I- Reference No. 3(S-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistaru

(i) Members, proxies or nominees shall authoriticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.

(ii) In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

(iii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, NiC numbers and signatures.

signatures.

(iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the (v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC of

(v) In the case of proxy by a corporate entity, sould be accordingly and the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of AHCL's Share Registrar (CDC\$ASL).

Online Participation in EOGM: In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual elaborate for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, in order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can also participate in the EDGN proceeding via video link. Accordingly, those members who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2022' not less than 48 hours before the time of the

Name of Shareholder Folio No. / CDC Account No. CNIC No. Cell No.

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars are received at corporate affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda

are received at corporate affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

Provision of Video Link Facility: If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to AHCL's Share Registrar (CDCSRSL). MPORTANT:

Contesting Election of Directors: Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together

(i) Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 89 of the Articles of Association of the Company.

Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.

(Hi) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance)
Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to
act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.

(iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.

(v) Declaration by Independent Director(s) under Clause G(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation

(vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of th Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Provision of Information by Shareholders: To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following: Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemptio

Provision of valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any future cash dividends

(iii) Provision of details of previous unclaimed dividends, if any.
 (iv) In case of a Joint account, provision of shareholding proportions between Principal shareholder and Joint Holder(s)
 (v) Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
 (vi) Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017
Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent

ing a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with th Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independen directors are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017. After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the ppointee for appointment as independent director: Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duh

Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed. The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Registered and Corporate Office

Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653 Email: info@arifhabibcorp.com | Web: www.arifhabibcorp.com

W WIL DOLARI

NEWS DESK KYIV

raine ramps up its offensive to retake Rusccupied territory in the country's south, ces have regained four villages and broken gh Russian defenses at multiple points of ontline in the Kherson region, according to nian officials. Ukraine's President Volodyelensky also issued a warning to Russian during his evening address Monday, saywas time for them to "run away, go home," at "the occupiers must know we will chase to the border." Yet one of his advisers cauthat the operation will be a slow one, that "grind the enemy." "This process will not be ast," Oleksiy Arestovych, adviser to the head office of the President of Ukraine, said in a nent posted on Telegram late Monday, "but nd with the installation of the Ukrainian flag ll the settlements of Ukraine."

e Ukrainian Armed Forces] have broken gh the frontline in several sectors," Areh said in a video interview posted on Youadding that Ukrainian forces were shelling crossing points that Moscow is using to re-Russian-occupied territory over the Dniver in the Kherson region.



23 شارع فاطمه جناح كا مور فون 042-36367583 فيس 6367552 http:\\nidaimillat.nawaiwaqt.com.pk

TAN AERONAUTICAL COMPLEX BOARD KAMRA AIRCRAFT REBUILD FACTORY

SHORT TENDER NOTICE

lealed tenders are invited from sales tax registered firms for procurement onic Filters for Aircraft Refuelers. Tenders are to be addressed to Logistics, Aircraft Rebuild Factory, PACB Kamra Distt Attock and must be ed before 10:30 Hrs on date of opening.

Tender No. & Description of Stores						of opening
ARF/PROV-0 Procurement Refuelers			Filters	for	Aircraft	15-09-2022 1100 HRS

Time & Date

For further details please visit PPRA website www.ppra.org.pk and PAC e www.pac.org.pk.

DIRECTORATE OF LOGISTICS CRAFT REBUILD FACTORY, PAC KAMRA (ATTOCK) CONT NO. 051-90992260



protesters: medic

AGENCIES ANTANANARIVO

Eighteen people died Monday after police in Madagascar opened fire on what they called a lynch mob angered at the kidnapping of an albino child, a senior doctor told AFP.

Dozens were wounded, some of them seriously. "At the moment. 18 people have died in all, nine on the spot and nine in hospital," said doctor Tango Oscar Toky, chief physician at a hospital in southeastern Madagascar.

"Of the 34 injured, nine are between life and death," said the doctor giving graphic details of the injuries. "We are waiting for a government helicopter to evacuate them to the capital".

Around 500 protesters armed with blades and machetes "tried to force their way" into the station, a police officer involved in the shooting said, speaking on condition of an-

onymity. "There were negotiations, (but) the villagers insisted," the officer told AFP over the phone from the town of Ikongo, 90 kilometres (56 miles) southeast of the capital Antananarivo. Police first fired teargas and then rounds in the air to try to disperse the crowd, he said.

"They continued to force their way through. We had no choice but to defend ourselves," the officer added.

APPEAL

Philanthropists are requested to donate generously. Nawa-i-Waqt Fund for Stranded Pakistanis in Bangladesh

23- Sharaey Fatima Jinnah, Lahore. A/C No. 01380043512303 Habib Bank Ltd. Lake

Road Branch, Lahore.



ADDENDUM NO.1

The Tender opening date of STG Tender No. GEPCO / PMU / 2022-23 STG-EPC-RT-03 for Design, Supply, Erection, Testing and ssioning of complete Grid Station (AIS) with construction of all Associated civil works for 132/11.5KV AIS Grid Station at City Housing Gujranwala on Turnkey Basis to be opened on 30.08.2022 published in the daily "Khabrain" & "The News" on 29.07.2022 is hereby extended and now the tender will be opened on 15.09.2022 at 11.30AM. PID(L)598

Chief Engineer (Dev.) PMU GEPCO LTD. GUJRANWALA

PAKISTAN CRICKET BOARD TENDER NOTICE

FOR PURCHASE OF 02X BAGGAGE SCANNER MACHINES

Pakistan Cricket Board (PCB), with its Head Office located at Gaddafi Stadium, Ferozpur Road invites sealed bids from eligible firms in accordance with applicable PPRA Rules on "Single Stage Two Envelope Procedure" for purchase of Two (2) Baggage Scanner Machines. The firms participating in the biddings process must have GST and NTN numbers.

A complete set of biding documents can be obtained free of cost, by interested firms from the PCB Security & Anti-Corruption Department located at PCB Head Office, Gaddafi Stadium, Lahore from Monday to Friday during office hours (09:00 a.m. to 05:00 p.m.).

The proposal shall be submitted latest by or before 16th September, 2022 at 1100 hrs. The technical proposals will be opened on same date at 1130 hrs and financial proposal of only those bidders/firms will be opened who shall qualify technically based upon scrutiny/assessment of technical credentials/evaluation criteria mentioned in the bidding

The firms providing unsubstantiated and/or incorrect information are liable to be disqualified. The disqualified bidders will be informed the grounds of rejection only upon

SR. MANAGER SECURITY & ANTI-CORRUPTION PAKISTAN CRICKET BOARD GADDAFI STADIUM, FEROZPUR ROAD LAHORE - PAKISTAN Tel: 042-3571-7231-4, Fax: 042-3571-1860



Pakistan Cricket Board reserves the right, in its sole discretion, to cancel or amend the bidding process at any stage and may reject any or all bids of proposals at any time prior to acceptance. PID(L)566

ARIF HABIB CORPORA

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Shareholders of Arif Habib Corporation Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 21st September 2022 at 4:30 p.m. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following

ORDINARY BUSINESS

To confirm minutes of the Annual General Meeting held on 28th October 2021.

To elect directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act 2017 for a term of three years commencing from 22nd September 2022. The number of the directors to be elected has been fixed at eight by the Board of Directors. Names of the present eight directors retiring on 21st September 2022 and eligible to file nominations are as under:

Mr. Asadullah Khawaja Mr. Arif Habib

Mr. Sirajuddin Cassim Mr. Nasim Beg Mr. Samad A. Habib Mr. Kashif A. Habib

Mr. Muhammad Ejaz Ms. Zeba Bakhtiar **ANY OTHER BUSINESS**

3) To consider any other business with the permission of the Chair.

A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

By order of the Board **Manzoor Raza**

Company Secretary

Karachi: 31st August 2022

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from 14th September 2022 to 21st September 2022 (both days inclusive).

Transfers received in order at the office of our registrar: CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi [AHCL's Share Registrar (CDCSRSL)], by the close of business on Tuesday, 13th September 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as

respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.

Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000

issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
(i) Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport

(ii) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, NIC numbers and

(iv) In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the

proxy form.

(v) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.

Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in address by writing to the office of AHCL's

Share Registrar (CDCSRSL).

Online Participation in EOGM: In the wake of prevailing situation due to pandemic, SECP has instructed listed companies to modify their usual planning for General Meetings for the safety and wellbeing of the shareholders and public at large. Accordingly, in order to maximize the member's participation, the Company is convening this EOGM via video link in addition to holding physical meeting with

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can also participate in the EOGM proceeding via video link. Accordingly, those members who desire online participation in the EOGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at corporate affairs@arifhabibcorp.com with subject of 'Registration for AHCL EOGM 2022' not less than 48 hours before the time of the Name of Shareholder CNIC No. Folio No. / CDC Account No. Cell No. **Email Address**

Video Link to join the EOGM will be shared with only those Members whose emails, containing all the required and correct particulars, are received at corporate.affairs@arifhabibcorp.com. The Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda

items of the EOGM on this email address and WhatsApp Number 0311-2706624.

Provision of Video Link Facility: If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company. It may be noted that no person other than the member or proxy holder can attend the meeting through video link facility.

E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with options of evoting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name,

Folio/CDC Account No., E-mail address, contact number to AHCL's Share Registrar (CDCSRSL).

- Contesting Election of Directors: Any person (including a retiring Director) who seeks to contest election of directors shall file with the Company at its registered office, Arif Habib Centre, 23, M. T. Khan Road, Karachi, not later than 14 days before the said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together
 - Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he / she is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 89 of the Articles of Association of the Company.

Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's SRO 1196(I)/2019 of 3rd October 2019.

(iii) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder, to act as the director (or independent director, if applicable) of a listed company.

(iv) Attested copy of valid CNIC and NTN.

Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation (vi) Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Provision of Information by Shareholders: To comply with various statutory requirements, and to avoid any non-compliance of law or

any inconvenience in future, all shareholders are hereby advised to coordinate / update their records with their respective Participant / CDC Investor Account Services / AHCL's Share Registrar (CDCSRSL) in connection with following:

(i) Submission of copies of their valid / updated CNIC / NTN Certificate / Zakat Declaration (Exemption) Form / Tax Exemption

Provision of valid bank account details / IBAN in order to enable the Company to pay any future cash dividends Provision of details of previous unclaimed dividends, if any.

(v) Convert their physical shares into scrip less form, which will also facilitate the shareholders having physical shares in many ways, including safe custody, efficient trading and convenience in other corporate actions.
 (vi) Provision of mandatory registration details in terms of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the

Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director

Being a listed company, Arif Habib Corporation is required to have at least two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that at least two independent directors are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017. After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment as independent director:

Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly

Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.

The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Registered and Corporate Office

Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi Phone: +92 21 32460717-9 | Fax: +92 21 32468117, 32429653 Email: info@arifhabibcorp.com | Web: www.arifhabibcorp.com

غذوآ دم(پنمه نگار) هاليه برساتون چي جونسلول ک در مراکول، ڈیول اور پاؤل کی جاتی ہوئی ہے وہ مس منجند، انظامی ناافی اور کریشن کا نتید ب جِدى ونيا مِن برساعي موتى مِن مَمْر صورتمال ياكتان عن اوتى باكروجه (باقى ساد 10ير)

گھوٹکی میں تباہ کن بارشوں سے 8افراد کی جان گئی 39 زخى ساز هے 3 لاكھ ايكر يركھري فصل ياني ميس بهيگي

وسائل محدود بين حكومت كومد دكيك يكاراب وي محترعتان مير يور بالنيو (نامدالار) خلع كوكي شرمون مون مون مير يور بالنيو (نامدالار) خلع كوكي شرمون مون مون كيارشون ك دوران 18 افراد جال بحق اور 195 كي و جزار 974 كمرون كونشان پنجار تشييات ك وي د الاكاكار كون الد 1863 مرين مشتل فعل جاء مطابق فري كشر كوكي ومران (باقي سفر 10 ير)

سركارى نرخ نامول كى فروخت ے معقول آیدنی مہنگائی روکنے میں انظامیکی عدم دلچیں

آقی (نامہ نگار)اسٹنٹ کشنرادر کفتیار کارما تی کے زيرنكراني شبريول كومركارى زرغ يرميزى اورفروث فروضت کرانے کا ذمیدارا دارہ (ہاتی صلحہ 10 یر)

.وېژى چى باند خالى عارت گرگئ كوئى جانى نقصان نبيس ۽ واقرب وجوار چى رہنے والے افراد نے بھی نقل مكانی شروع كردى الدادى ادار ے خدمت جى چيش چيش

میبڑ کے قریب انڈس ہائی وے پرمسافرگاڑی لاڑ کا نہ جارہی تھی کہ تیزیانی نے پلٹ دیا' لاپیۃ مسافروں کی تلاش جاری' ہر طرف خوف و ہراس بين التحر اروبزي جدو (نامد فكاران) اندرون عنى مسافر كوي الت كي، 3 مسافر بيد يك رديم

سندھ بارش کے بعد بھی جاسی کا سلمہ جاری ہے مطابق سائی ریلے میں بہرجائے والے اسان ای وے پر میرو کے قرب سائی ریلے اسان واری (باقی سفر 10 پر)

ریڈیو یا کتان خیر یور کی عمارت خشہ حال نشریات بند

چھتوں کا پلاستر گرنے لگا' دیواروں میں کرنٹ بیڈ کوارٹر کواطلاع

نئ عمارت 1983ء میں تیار کی گئی' کسی وقت بھی مہندم ہوسکتی ہے فيرجور (زورور ايون) ريان ياكتان فير إور كى الكيت الناف من ب تالي با اورتشريات بند

نشریات 12 وان سے بندُ اسٹوا بوزش پھول کا ہے ۔دوسری جانب ریڈ بو فر بورک مید مارت باستر کرتے اور بائی وافل مونے کرنٹ کٹل کیا 1983 میں جارمونی محاوران وقت کے دربراعظم ہے جس کے باعث ریڈ ہو ہاکتان قیر پور کی اعمد خان جو ٹیج نے اس براڈ کا منتک ہاؤس کا افتتاح نشریات بند ہوگل ہےاوراسلام ایاد ہیڈ کواٹر کوائر کا ک کیا تھا بلڈگ اس وقت فیشہ حالت میں ہو پیکی ہے اطلاع كردي كى ب ال سليط عي المعيش ذائر يكثر الاياري يحي كن وقت كرستين بين ال وقت ريذع سیدا کمرشاہ سے داہلے ہوئے پرانہوں نے ال ہات | تجر اورکو بھانے کے لئے بہال کے سیاست دانول کی تقدیق کی ہے کہ برسات کا یانی اور چھوں کے اور مائی تقیموں جوآ گے آناماہے۔

ۋىرەمراد جمالى يىل حكام كافورى ايكشن شرانگيزى كرنىدا لے45 افرادگرفتار چیناچچٹی کی اطلاعات پرمتاثرین کی امداد میں خلل کا خدشہ

ار ومراد منافي (ناستكار) في ومراو منافي شي اين في ايس في ومراد منافي كا يزا آيريش تی اور حکومتی ریلف کی ارکوں کولو شنے والوں کے 145 فراد کو گرفتار کرے تکتیش شروع کردی ہے۔ تصيدات كمطابق ويرومراد بماني يس كوركماند

روبرى ش الدارت كردين إلى او ق ك إحدال كالميريز ا اواب

نوٹس برائے

غیر معمولی اجلاس عام askarilife بذريد بذا اطلاع دى جاتى ب كه عمرى الف الف الشرائع في ممين من من كندكان كاليك فيرمعوني اجلاس عام بروز **جعرات ١٣٠٥ مروح عماره بين** الخوير

غورة آري ويلفيتر لرست استأبليوني بلاز ومدي مال مداوليندي مور في الواقعة أوم كا 5ؤميننگر «Zoom Cloud Meetings) برمنتقد كما جائة كا. مکار رفیز اینڈ اینٹریکنیٹن آف یا کتان کے اماع میں سر گوام مار طاح میں ماور دید ہماں " حام فیرست شدہ کمیٹی س کے لئے کورہ ناوائزس کی فیر بیٹی حالات کی منص ندی بر مرقزز بر وضاحت مورویه ۱۵ و تهر ۱۳۰۱ م که مطابق و دو ارکان جو فی الواقع اجلاس شی شاش دونے میں دگیتی رکھتے دول، "أدم کا اؤامیننگز" (zoom Cloud Meeting) كذر ليدائيا كريخة مين جوكل في استور (Google PlayStore) يا اينل اي استور (Apple App Store) سندة الاتالة کیا جاسکتے ہے۔ اجلاس والے دوزصص کنندگان کی مجی قاتل رسائی مقام ہے اسارت فوزیا کھیولرڈ اجائیں کے ڈریعے لاگ ان دوکیس کے اور اجلاس میں شرکت

نام حصل کندگان کوشن کے نام موریدها حتر ۲۰۲۰ و کاروبار کے اعتام بر کہنی کی کتاباں میں موجود ہوں کے اجتاع میں شرکت کے متصد کیلئے" بروق "تصور کیا جائے گا اور جوآن لائن پلیٹ قادم کے ذریعے اس فیر معمولی اجلاس عام شی اثر کت کے ٹوا ایشند جیران سے در ٹواست کی جاتی ہے کہ و متدرجہ فی مطومات کی فراجی کہ ارکیے جلد از جلد بھن اجلاس سے موج تھنے سے ایاد وقیس (بینی اجاتیہ سوجہ موج ساڑھیں) ompany. secretary الفاعد ا ر ميني سكر علري كوفتر على الدوكور منز كروالين:

الكثل	مواكالير	فليتراى دى ير	عافق كاردالبر	هم كتدوكانام
al a to to	0.6.0	100 6 6 6 36	/ 1 l les	6 110

فوایشند معنس کنندگان ہے قد کور بالامعلومات وصول ہوجائے کے بعد ، ٹیٹی ان کوان کے دیئے گئے ای میل ہے پر لاگ ان تکھیلات کی سیجے گیا۔ لاگ ان کی سیوار شرکت کندگان کی شاعت اور تصدیق سے تل میں آسانی کے لئے اجلاس می**ں کی کیارہ ہے** شرکت کندگان کی شاعت اور تصدیق سے آم ا المترس فيك عاد صدى بي كول باك ك-

نام تصف کنندگان جن کے نام (مورندها مترووی او کو کاروبار کے افتتام یر) کمیلی کی ترابال میں موجود یول کے گروہ ایجندا اللات کیلیا اسپیاتیسرے اتباوج ارج بالا ای سیل بیند یا جاس ہے کم از کم 17 محص فی سی سی سے میاس میں انتظام اور انسیں اجلاس کے منس کا مند بنایا جا اے گا۔ جان مركورة في كاروبارا تجام وي كيا في منطق وكا

291) الم الا 19 ما وكونت الدوالي ويرسالان اجلاب عام كمنت كي العديق ا

اكرمناب مجماجات ودن وفاول فالرقراروي محي ترميم بارتيم كالقرباس كرن ولهوك جادا

ع منے بالا کر باکتان اساک ایم مجھ کمیلیڈ (نی ایس ایکس) کی منظوری سے مشروط بھٹی کا مجاز سرمایہ 10 رویے فی تصص کے صاب سے 200,000,000 ما متعمل مين تقليم سے محت محت 2,000,000,000 روپ بنا سال 10 روپ في حسس سے صاب سے 300,000,000 مام حسم مين تقليم سے کے گے3,000,000,000 روپے کردیا جائے اور کھنی کے میمور ترم آف ایسوی ایش کی شن ۷ اور آرفیکر آف ایسوی ایش کے آرنکیل کی شن 4 میں الفاظ اور اعداد وويذ في الودير تهر في كروسية جاشي

Vでんからいいいから کینی کا کوزسر بایہ 10 دور پر فی صفع کے حداب سے 300,000,000 عام صفعی میں تقلیم کے گے 3,000,000,000 دور پر (تی المین فقا) ہے۔

كيني كام از مريايه 10 روي في تصفى كاحراب = 300,000,000 ما مصفى مي تشيم ك من 3,000,000,000 روي (تمن المين فقذ) ب-"عزيه شے پلا كركوني مجلي ذائر يكثر أرجيف مجر يكونو أغيسر يا محتى كائيكر يغرى متدرجه بالاقر ارداد كے سلسط شرياتها م كار يوريت اور قانوني وكي كارروائيوں كومسل كرف اور كيني رئيزيش فيرك ما تحضروري قارح دور فواشي اور ديناه يزات أولل مي لاف اور قاك كرف كالجاز اورب

> محى اوركارو يارقل عى الا ناجواجلاس عقل اور فيتر عن كى اجاز ت عدول كياجاك الم الت سين

2001/21 كالخ تكريفري

ك الميني كالصف يمثل ك ترايس والتروي والتروي والترويون. (المول دون إم) بغد إلى ك- عار عدد وشرار بصرز في الك كاليوى النس (يرائع يث کمیلیڈ، بات فیری 32، ماق مرش احریت 2، اینتس بازشک اتھارٹی، فیر ۷۱۱ ، کراری کے دفتر میں، ورست طور پڑھنس کی موصول مشتلیاں، اجازی شر شركت كى فوض سے برواقت السورك جا كي كى -

ب) اجلال عن شركت كاللء كن اجلال عن شركت ك لئ كلف وشند كرئے ك اور دوٹ دينے كيلئے اپني جگراپ تاب (يراكى) ك طوري كن فروكا تقر کرسکا ہے۔ ایسے پانیوں کی آخر ری کی اطلاع فیال ہونے کی فوش سے معرشدہ واعظا شدہ اور گوائی شدہ اجلاس سے کم از کا ایس تھے لگل کھٹی کے بیٹا آض ، ايران اور وفتر قبر 1104 ، كيار دوال قود يات قوا و باك و مكذى اسامير واحد الكيم و يقتل مرا يق من وياخروى ب- ايك ركن كو ایک سندیاده تا تب مقرد کرنے کا اتحقاق سامل فیل ب

ے) کا ای الا کا انساز فی الا واف کے مال افر اواجان ش شرکت کے وقت شاخت کے لئے اپنا اعمل فی شاخی کار ڈ ، الا واف لبرا و فی الا و اف لبراوری ا کی میں دری شرکت کنندو آئی ای فیرفراجم کریں۔ کی کار پوریٹ ادارے کے صورت میں، اجلاس کے وقت ناحر د کردہ کے دعوظ کے ساتھ بادرا آف

ڈائز مکٹرز کی قرار داد/ محار نام ویش کیا جائے گا(ان بیرک پر پہلے ویش کردیا کیا ہو)۔ هسس كندگان (فيرية يى) ، دونوات كى جائى بكرايند بول يى كاند في كاهورت يى أورى طوري كافى كشير روز اركواطلان ويراور اگر

مکن ہوتوای سل بعد می فراہم کریں۔ مائے قرری کی (دراکسیز)

> القرادى دون كي صورت عي مدري بالانوث (ب) عي مطلع كرده خرورت كي مطابق يا كي قارم بي كرانا یرا کی فارم پردو کوابان کی تقعید میں ہو کی جن کے نام سینے اور آوی شاخی کار ذکھیر فارم پر دری کے جا تیل گے۔ ما لك الله الله الدون ب عقوى هافتي كارا إلما سيورث كالعديق شدونق له ياسمي فارم سرساته قرائم كي جاسمي كي عب المال كوت المال أوى شاخى كارفيا عورت وي كرك ك

كار بوريث ادار ، في صورت ش، يه أكى فارم باحز دكره و كه و مخلا كسما تعد بادؤ كافر الريافي كار داداً عن باستاني كاو الأبياك ميلون كرديا كيابو)_

كى مى احتدار استقامعلومات كے لئے واركان شيئر و بستر ان سے درية قبل بين روابط أر سكة جي ا

فَي اللَّهُ كَالِيونِ إِنِّي (يما يُونِك) لمنظية

اینش بادستگ افدار کی . فیز VII ، کرایی

325/2016

جای کرش احریت 2.

الى: 021 34 1112 كان

مسترى والك الشورس مجل لميلية الالشادر والمرابع المرازاء كيار بوال فكور، يان شي 19 ، ياك 5 مكذا ق استام والعند الكيم 5 بالفن مراجي (ان: 275 222 111 120 رابد فرو: ميني تكريفري

company.secetary@askarilife.com كمينزا بكك 2017 كيكش 134 (3) كماتحت

کینی کو منطقی میں مانی افزوز ماہد سر ماہدے افراجات میں مدد کی مکاریشروریات بوری کرنے کے لئے جمعی سے منطقی میں افراء پرخورکرنے کے لئے مهنا سے قوت کی فراہی کے لئے ، پودة آف ڈ آٹر یکٹرزے اپنی میٹنگ موروع اگرے ہوئے مثل مطلق عمرا کے کئٹی بوحائے کے لئے میمورٹ م آف ایسوی ایش اور آرفیلز آف او ق ایٹن کی شنوں جی متعاظر زامم کے ماتھ بھنی کے جاز صعبی مرمائے کو 10 رویے فی صعب کے 200,000,000 مام صعب سے 10 رویے فی صعبی کے صاب ے300,000,000 مام صحت میں کتیم سے مصر 3,000,000,000,000 روپ تک مشافے کی سفارش کی ہے۔

فالزيكرة مليالسرة بصعن بافتكان كالفر تعدادادان كدشته الدورة بالاكاروارش براداست بإاطه طالبي فالبراء كمضام السائح تخوش ان كالمنظ مصحص كالعدمات كمن كريمورة م ف الموي المنان المراري ألا أف الموى المنان على تركم

Pr موجودهاتن مینی کا مجاز سرمایہ 10 روپ فی صف کے صاب سے کیٹی کا مجاز سرمایہ 10 رویے فی تھھ کے صاب سے 300,000,000 صص بين تشيم ك من 200,000,000 روي (تين ينمن فقذ) ب-200,000,000 صف مي التيم ك ك ك 2,000,000,000 كينى كام ازمرمايد 10ردي في هنس كرصاب نمین کا مجاز سرمایہ 10 روپ فی تصص کے حساب سے 300,000,000 200,000,000 (ويلين فقة) عام عصص ين تحتيم ك (تمن بلمن فظا) عام تصل مس تقيم ك 3,000,000,000 روي (تمن

DISCOVER BUSINESS OPPORTUNITIES WITH TDAP offers an excellent opportunity to showcase your

products and develop business with international

buyers through this fair.

DAKAR -SENEGAL

15 - 31st December,2022

Products in focus Cotton Fabrics, Readymade Garments, Knitted Fabrics, Bedwear, Towels, Leather & Leather Garments, Sports Goods/Wear, Marble and Granite, Ceramics, Sanitary Ware, Auto parts, Engineering Goods, Cutlery, Kitchenware, Pharmaceuticals, Surgical Instruments, Gems and Jewellery, Carpets and Rugs, Furniture, Handicrafts, Gift Items, Stationery and Chemicals, etc.

TDAP reserves the right to revise Participation Fee or changethe terms & conditions of participation at any stage.

The companies will register online only with the link: https://tdap.gov.pk/mis/

Participation fees: Rs. 75,000/-

Note: Spot sales is allowed

Last date of submission of application: 15th September 2022 Disclaimer: The Trade Development Authority of Pakistan does not work in liaison with any private marketing companies or agents for its participation in International Trade Exhibitions' Participation will be subject to terms & conditions available on TDAP's webportal http://www.tdap.gov.pk

"The companies registered with Pakistan Trade Portal will be considered for selection only" https://pakistantradeportal.gov.pk/

Ali Mardan Bozdar, Assistant Director,

Tel: 021-99206803, email: alimardan.baloch@tdap.gov.pk





عارف حبيب كار پوريش كميڻڙ

نونس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس نوا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حدیب کار پوریش کمیٹ (کمیٹن) کے تصصی افتکان کا غیر معمول اجلاس عام (EOGM) بروز یدھ 21 ستمبر 2022 کو شام 4:30 ہے یا کستان اسٹاک انتہج آ ٹی باور کم واسٹا ک ایسی بلند تک واسٹا ک ایسی وروا و کرا ہی جس برمد الطار و تک فر رائع کر اوا بالک کی سوات کے ساتھ متدرجہ فر بل امور کی اعجام وی کے لئے متعقد کیا جائے گا۔

 ا. سالاندا جلاس عام معظمه و 202 كوررواني كي أو ثق ـ کینیزا کمٹ جربے 2017 کی دامد 159 کی شفوں کے مطابق کین کے دائو یکٹرز کا تھیں سال مدت کے لئے انتقاب جس کا آباز 22 سنبر 2022 ہے ہوگا آپ بروا آپ کے مطابق کی جانب سے قابل انتقاب

الار يكفرز كي العدادة الد (8) مقررى ما يكل ب- 21 متعبر 2022 كورية تزوو في والم موجوده أطوار كفرز ، جوده باره اقررى سكامل الله ، كما تام درجة والم الله :

 -2 جناب مارف صبيب 1- جناب اسدالله تواجه 4- جناب يم ييك でないとかしりとしい 一3

6- جناب كاشف اعميب -5 جناب مما عميب

8- مرمديا بخيار 1515-12 -7

 نیمزشن کی انها ثرت سے دیگر کی امور کی انجام دی۔ كمينزا يك جربه 2017 كى دفعه (3)166 كافت اجم امورے عملق ايك بيانية أس بذات مشلك كركے حصص يافتكان كوارسال كياجار إي-

منظوررصنا كسي في سيكر يه شعري کمپنی کا منتقی قصص کی کتب14 ستیمر 2022 و تا 21 ستیمر 2022 و (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی ، جارے دبسلرار میسرزی فری کا شیئر ربسلرا رسر مسرکمینلا کے دلمتر داقع می فری می باؤس، 99 بی ، بااک بی

ایس ایجای افتح ایس بین شاجرا فیصل، کراتی [AHCL کے شیز رجسل ار (CDCSRSL) کو منگل 13 ستمبر 2022ء کوافٹنا مرکارتک موصول ہونے والی منگلہاں اجلاس بذا جس اثر کت اور دائے وی کیلے تصص بافتكان كاستمقاق كيفين كيلي بروقت جمي جائيل كي-2 اجلاں پذاہی اٹر کت اور دائے دیکا کی اٹلی ممبر اپنی جانب سے شرکت اور دائے دی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پرد کسی مقرد کرسکتا ہوگئے ہے۔

سكور فيواليذ المي المين أف ياكستان كم يارى كرودم كرفير 1ريانس أبر 3 (1) متفرق اسة راه أيل اى ايس أ 96 مورد 26 مؤوى 2000 وش ورج بدايات ميت طريق كار: (1) ممران ریا کسیدن با مود افراد کواری شاخت کے کیا جاس ش افرکت کے موقع براصل آقری شاخی کارڈ یاصل پاسیدن بیش کرنامه کادرایا تولیفر برمرادانا مولا (ii) کار پیریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈوائز کی قرار دادار پادرآف اٹارٹی ادریامز وفرد کے قوی شاکن کارڈ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کافی (اگر پہلے فراہم نے کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پروٹش کرنے

(iii) مؤشر اهل ہونے کے لیے، یرو کسی فارم د شخط اور مہر شدہ اور دو کواہوں کے نام، پیدتو کی شاختی کارڈنمبر اور د شخط کے ساتھا جانس کے انعقادے کم اڑ کم 48 محصے قبل AHCL کے شیئر رہسٹوار (CDCSRSL)

(٧) كار يوريث ادارے كے يروكن جوئے كيامورت شرى بورة آف از يكرزى قرار دادار يادرآف ان ان رقى اور يروكن كار في شاخى كار از يا استحد الله الله يا يورث كار كار يورث 4 مجران ے درخواست ہے کہ ہے ش کمی حتم کی تیر بلی سے تحریری طور پر AHCL کے شیئز رجسٹرار (COCSRSL) کے دلتر کوفوری مطلع کریں اور اپنے تی این آئی تی کی کافی فوری طور پر فراہم کریں۔ ? ه<u>ر معولی اجاس عام جن آن الآن اشرکت</u> : و بانی صور تعال کے باعث ایس ای ای ٹی کے کمپنیوں کو تصص یا فتکان اور عوام کے قتلا کیلئے معول کے مطابق اجلاس عام کے العقاد جن تبدیلی کی بدایات جاری ک

اللهال اکھین اس غیر معمولی اجلاس مام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ اُر کت کو لیٹنی بنائے کے لیے آئی بذات اُور موجود دگی کے ساتھ ساتھ والے اُلک کے ذریعے شرکت کی مہدات قرائم کر دی ہے۔ میٹن نے یہ دوست کی کیا ہے کہ تمام شرکا میٹیم والد رو دو فرونک کے ذریع اجلاس بذا میٹی شرکت کریں۔ آن الائن شرکت کے محتی مجموران سے درخواست ہے کہ متدرجہ ذیل کو انقد اور می این آئی می ک (ووفو ل)اطراف) کابی کے عراء EOGM 2022 میں خات corporate affairs@arifhabibcorp.com کی ایل 2022 "کے عوان سے اجلاس پر اے انتقار سے گوان كمان اليس (48) كمينة قبل رصاريش كراليس-

موائلاتير فوليونبرأى ذى يأه كالأنت نمبر كالكا أفى كالهر شيزز والدركانام EOGM شرکت کیلئے والے الک عرف ان مجران کیلئے کھوا اجا تیکا جن کے تمام مطلوبہ درست کو اکلے۔ پر مشتل ای تیل corporate affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یا افتکان

لدكوره اى اسل الدريس اوره أس ايب تمبر 4311-270662 بالشائيلة وآسينو كيفيرات اور والات كارسال كرسكة إلى. 6-ور الانك سوات كي فري : الركيمين كواجلاس كالعناوي كم از كم سات (7) روز قيل كمى ووسر عشير بين غييم عليم وس فيصديا زائد هيئز بولارز كي جانب سه بذريد وفر يولنك اجلاس بين شركت كي ورخواست موصول ووف كي صورت شي تيمني متعلقه مقام يروؤ يوفقك موات كا وتمام كريلي.

بذر بعد والي النك اجلاس شد المركت كم متنى شيخ والذرز سه ورخواست ب كريمين كي وب سائت بروستياب" والي النك فيسينني قارم" بيز كركيمين كدوستول كروس ب المثري ومبريا بروستو

علاده كونى فردويذ يوفقك كانفرس ش اشر كت كالل تبين بوكار 7-<u>ای ووظف دو وظف نزرید فواک :</u> کمینیز ایکت مجریه 2017 در وفعد (1) 159 کے اتب اوا کریکٹر کے انتخاب کے نوابشتد افر اوقعد اوز یادہ ہونے کے صورت ٹی کمین ایپے تمام مبران کوائی ووظف اووظف بذريد ڈاک کی میدات متعلقہ قوائین کمینیز (پوش بیلٹ) ریکولیشتر مجریہ 2018 سے مطابق فراہم کرے گی۔

دو عصص پافتگان جو بذریعدای دونگ شرکت کے تواہاں بیں برائے میر ہائی اپنے دستھ کردہ ایک خط کے ذریعے ے ، نام، فولیدای ڈی می اکاؤٹ قمبر، ای میل ایڈریس، داہالہ قبر فی اللور AHCL شيزرجسلوار (CDCSRSL) كوفراهم كرويد-

8-<u>ا انزیکٹرز کے انتقاب کا مقابلہ</u> : کوئی بھی فرو (بشمول ریٹائز ہوئے والا ڈائزیکٹر) ہوکہ ان کا سے انتہا کے انتقاب کے لیے منتا ہے کا تواہاں ہو کہٹن کے دہسٹرڈ آفس، مارف صیب سینٹر، 123 یم ٹی خان روڈ کرا ٹی ٹس نہ کوروا جان سے کم از کم 14 ون قبل کمپنیز ایک 2017 کی وفعہ (3)159 کے قت ڈائزیکٹر ان کے انتقاب کے لئے اسپیٹا فافدات نامور کی مندر جدڈ مل وستاویز ات کے ساچھ فراہم کردے : ا-انتخاب لانے کے لئے اسپنے ارادے کے نوٹس کے ساچھ لی پڑ شدہ اور دستھا شدہ قارم 28 نس شامنٹر ہونے پر بحیثیت ڈالزیکٹر کام کرنے کی رضامتدی (زیروفعد (1)167 کمپنیز ایکٹ 2017) اور اس کیاے کا تصدیق کرو قوائین و موابط کے تھے اور یکٹر ہنے کے لیے ہاٹی میں ہاور پر کرو مین کا ربطوراً ف ایسوی ایش کی تق 89 کے مطابق ابلیت کے لیے مصن رکھے۔ اا - صلى تعارف (بروقائل) مع وفترى يدجى كمين كى ويبسائ برا تقاب سسات روز في 35CP ك 58O1196(1)/2019 مورى 37 كتوبر 2019 ك تحت آويزال كردياجات كا

iii — اقر ارنامہ کہ وواسلا کمچینز (کوڈ آ ف) او بوریٹ کورنس کار یکولیٹٹو 2019 کے توامد وطوابط پر بوراازتا ہے اوراسنڈ کمپنی کے ذائر یکٹر (یابلورآ زاوڈ ائریکٹر ما کر قابل اطلاق ہو) کے دیشیت سے کام کرنے ك لي مينيزا يك 2017 ك في كردومعيار البيت يريورا ارتاب-

الله المرقع الما كالله (CNIC) اورائي في اين (NTN) كي تصديق شدوق. v-آ زاداً او يكر (دُاوَيكرز) كاستاكينيز (كوا آف كار پدرت كورنس) ريكيشر 2019 كانل(3) كات اقرارات. الا- نان جوابش اسنامپ بین پر حلف نامه که دو کمچیز (مهر اید سلیش آف الدینه نه نه از یکفرز) ریگولییشو 2018 کی شیل ایک کی مطلوبات پر پررااتریا/ازتی ہے۔ 9- <u>شیز مولارز کی مانب سے معلومات کی فرایھی :</u> مختلف قوانین کی هیل اور کسی بھی تانون کی مدم هیل یا مستقبل میں کسی بھی تھم کی تطلب سے بچنے کے لیے تمام شیز مولارز کومشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل

معلومات أوستاه يزات المياع عقالة شريك أى أي أي كانويسلوا كالأسام ومرا AHCL كي شيرر بسلوار (CDCSRSL) كوفراجم كردي: ا- ورست کا این آنی کا این فی این سر ٹیکلیٹ از کواچاستی سرٹیکلیٹ الیکس استی سرٹیکلیٹ کی فراجی۔

ا - درست بينك اكاؤن كي تصياب اورايا BAN كي فراجي تا كيمين متقبل شي تقدمتافع مقسمه كي ادائلًا كرسك. III - كذشة غير داوي شده منافع مقسمه كي تفسيلات كي فرايي . عا-جوائف اكاة تث مولدرد كي صورت عن يرتبل شير بولد راورجوا عند شير مولدر كشيرز كدرميان تناسب.

ا- فريكل عصص كاسكرب ليس مورت عن تبديلي جس مصصى وافتكان كوكنا اعداز سيهات في بس على من عنده واتو يل بمستعد فريده فروعت اورد يكركار يوريث كارروائيول على آسانى ب-الا-كمينيزا يك 2017 كى دفعه 119 دركمينيز (جزل برويش ايند فارمز) ريكويش 2018 كى شخى امبر19 كے قت لازى رشستريش كا معلومات كى فراتمى۔ كمينيزا يكث 2017 كى دامد (3)166 كاتحت مام

کمپنیز ایکٹ 2017 کی وقعہ 166 کے قت ڈائر بکٹران کے احماب کے لئے اجاس مام کے وائس کے ساتھا ہم امور پر بٹی بیا بیٹینا شروری ہے جس میں مختب شدہ فرد کی بھیشت آزاد ڈائر بکٹر کٹرری کا جواز سیشت استا مین سارف صیب کار پوریش کمینلا کے لئے شروری ہے کساس کے بارڈ میں استاد کمینیز (کوڈ آ ف کار پوریٹ گویش) ریکھلینٹنز 2019 کے انست کم از کم دوآ زاداداریکٹر تروی راید انگیل اس بات کو

عِينَ بنائے كَى كُمُ ازْ كُم ووا زُاودُ ازْ يَكُرْزُ كَوْيَيْزا يَكُ 2017 كى دفعہ 159 كے قت ڈائر يكثر كے اتفاق الريشار كے مطابق مختب ہول. اميدداران كى ماتب سے احماب لانے كاراد سے كارور كواست كى دمولى كے بعد يمين آزاد دُائر يكر كافر رى كے لئے درج ذيل طريق كارا پائے كى: ميدوارل كمام ك SECP كم إطابط مجازيا كتان السليف أف كار بوريث كونس (PICG) "كتيار كردوا يناويك ش الموليت. -إليكش لا في والياميد دارون كي معلله ملاحية في يحوع مهارت بعليم اور قرب كي تتنيس كي مائة كي ..

- ڈیٹاریک سے کی کانام محکب کرنے سے قبل کین جامع تنظیمی کر سے گی کہ الیکٹی اڑنے والدامیدوار کمینیز ایکٹ 2017 کی وفعہ (2) 166 کے مطرورہ آزاد والزیکٹر کے معیار پر جورا اثرتا ہے۔

رجسسطروا وركاريوريسك أحسس

وومرى منول مارف حبيب سنار، 23 ، ايم في صنال روا ، كرايى ، إكسستان -لميليِّون: 9-17 32468 21 92+ | فيكن: 92 21 32468117, 32429653 +92 21 2468 ويب مائك: www.arifhabibcorp.com | الي ميل : www.arifhabibcorp.com





ے روڈ سے ٹرک ڈرائیورکو نامعلوم سکھ افراد۔ افوا کر لیا ہے اور کے کی طرف فرار ہو گ وُرا تَعِدول نِے گاڑیوں روا پر چھوڑ انڈس باؤ وے روڈ کو باک کر و باہے جس بھی وجہ سے کی گھنے تک روڈ باک ہوگی مسلسل وار داتوں کی وجہ سے ڈاکوڈل کا راٹ قائم ہو گیاجس کی وجہ سے شہر پول ک جان ومال تحطرے میں ہے ہولیس حسب دستو معافے کو دیانے کی کوشش میں مصروف شری فیم محفوظ میں ہوئیس چارہ ال واکوؤن کے آگے ہے ^{ای} د کھائی وے رہی ہے اس علاوہ کشمور شیرے بھی ایک درجن میزاندموثر سالکلیس دا کوشند ما کان ن زیردی چھین کئے ہوئیس نے اسونٹ تک ڈاکوؤز اور چورول کے خلاف کوئی بھی کاروائی ٹیس کی کشمو شى ۋا كوراڻ پرقرارى



هيدرآ باد: نطيف آ بادليسرة للميري المينيو كرفز كالح مائے کرے کا امراد میورڈ کا کندویان جج ہ ےاسکول کی طالبات کوشد ید حشکلات کاسامناے

سأتكحثر مين فجى جيل يرحجعابيه

جبرى مشقت كأشكارا فرادبازياب

ما تحز (نامہ لکار) ما تحد منطق پایس کا ایڈیٹر وسٹرکٹ ایڈیٹیٹن کے رسول بخش سونگل سے تقلم پا فوجی کالونی چک فہر 3میں چوہدی اشرف زرگ زمین پرنگی جیل پر جمایه گزشته 15 سال. فيرقالوني طور يرص عاش ركع موت چوٹ جھل خاندان کے سات افراد کو بحفاظت ازیاب کروالیا۔ تصیارت کے مطابق ہول مجل ئے ڈسٹر کٹ ایڈ سیشن جج ساتھٹڑا جادل حید رمیم اہے خاندان کو غیر قانونی طور پر زمیندار چو بد شرف كجرفيهم يتامي ركفنى ورفواست ہے کہ فوتی کالوئی چک نبر 🛚 03 کے زمینہ

برسات مناثرین کی مثلز بارنی سیای تغریق بالاتر موكر خدمت پر بيفين رفتي ب بيد بات سا موبانی وزیرقانون شیز پارٹی شهید بینظیرآ با إويرقل صدر ضيافت الجارت برسات مناثر داوری کے بعد محافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صوبانی وزیر قانون نے کہا غیر متوقع بارشور ے جاو حال برسات مثاثرین کی بھالی کے ت عدو حکومت کی جایات پرتمام اهلاع کے لشومقرك ين الكرري إلى كرايد حاري تصیلات مح کر کے باتا فیرمستحقین کی اما سلسله شروع کرد یا گیا ہے مثلانا پارٹی پریشانی کی ں گھڑی شمامندہ کے جوام کے ساتھ کھڑی ہے۔



بنائين جائين جاويد قريش

غَدُواً دِمِ (نامه نَكَارِ) آل يأكستان الجمن تاجرا شدہ کے صدر جاوید قریش کی حدایت پر تا راوری کی جاب سے منتلع ساتھنو کے سیلار متاثرین کے لیے ہوے شلع میں ریابف کیہ قائم ريلي كيهن شرمنا وين كالخبي ا کی سیوات سمیت ر باکش دو وقت کا نگا بوا کما: عَتَكَ رائن فراہم كيا جاريا ہے۔ال موقع ير یا کستان انجمن تا جران سنده کے صدر جاوید قر نے سا ب حاوی کے لئے قائم د الیا کیا ووره كيا اورا تظامات كاخود جائزه ليا -جاويدقر نے کیا کہ تا جر براوری اس مشکل کی گھڑی پھر سيائب متاثرين كساته شانه بشاند كزى ب. صورت اکٹل تھا کیل چھوڑیں کے انہوں نے کہا ہدے ملک میں برسات سے (باتی سند 10)



ا كى بالفريق عدمت يريفين رصى ب-



ملك كوبيان كيلية ديم





حیدرآ باد: بوسری کے رہائش سیاب متاثر پر انظاميك غلاف مظاهر وكرربي

ہے۔ اجلاس والے روز مصص کنندگان کسی بھی قابل رسائی مقام ہے اسارے فو نزیا کمپیوٹرؤ پوایسز کے ذریعے لاگ ان ہوسکیں گے اور اجلاس بلس شرکت

مگان کوش کے نام مور ندہ احتر ۲۰۲۳ وکوکار وبار کے اختام رکبین کی کتابوں میں موجود ،ول کے اجتاع میں شرکت کے مقعد کیلے "روفت" تصولا کیا وآن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے اس فیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کدوہ مندرجہ ذیل معلومات کی فراہمی

			נייק ענוייטי	מביין ביני עבפוניים עפוריים		
ای یل	موبال فير	فليتراى دى تبر	شاختی کارونبر	Ct 60.		
			200000000000000000000000000000000000000			

ل کنندگان نے ذکور بالامعلومات وصول ہوجانے کے بعد، کمپنی ان کوان کے دیے گئے ای میل بے پرانگ ان تفصیلات بھیجے گ لاگ ان کی سولت ن کی شاخت اور تصدیق کے عمل میں آسانی کے لئے اجاس میں مج ممارہ بیچ شریک ہونے سے قبل، اجاس کے شروع ہونے سے آدھے تھے قبل جھمات فيك كار صور بيخ كول جائ ك-

ندگان جن کے نام (مورخہ ۱۵ تتبر۲۴ و کوکاروبار کے اختتام پر) کمپنی کی کتابوں میں موجود ہوں گے، تجویز کردہ ایجنڈ اٹکات کیلئے اپنے تبعرے اتجاوین، یل ہے پراجلاس ہے تم از ممم مستحق فیل بھیج کتے ہیں جن پراجلاس میں تفتّلو ہوگ اور انین اجلاس کے منٹس کاحقہ بنایا جائےگا۔ الىكاروبارائجام دينے كے لئے منعقد موگا:

١٢٥ پر يا ٢٠٢٢ وكومنعقده التيهويسالانداجلاب عام كمنش كي تصديق؛

أكرمناب مجاجات الودج ويل" فاص قراروي" محى ترميم ياترميم كي بغيرياس كرف يفور ك جانا: " فے پایا کد پاکتان اشاک ایجینی لمینیڈ (نی ایس ایکس) کی منظوری ہے مشروط، مینی کا مجاز سرماید 10 روپ فی تصف کے حساس ب ,200 عام صعب بين تشيم كے گے 2,000,000,000 دو ہے ہے برحاكر 10 دو ہے في تصف كے صاب سے 500,000,000 عام تصف بين تشيم 3,000,000,0 روپے کردیا جائے اور کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوی ایشن کی شق ۷ اور آرٹیکئز آف ایسوی ایشن کے آرٹیک کی شق 4 میں الفاظ اور اعداد ہ

ں کا عیاز سر مانیہ 10 روپے فی خصص کے حساب ہے 300,000,000 عام حصص میں تقسیم سے گئے 3,000,000,000 روپے (تین بلمین فقط) ہے۔

ن كا كازسر مايد 10 روپ في حصص كرساب = 300,000,000 عام العمد مي متنتيم كا مجاز مرمايد 100,000,000 روپ (عمين بلين قط) ب-پد مے پایا کیکوئی بھی ڈائز میٹر اچیف انگز کیکوٹو آفیسر یا کمپنی کاسیکر بیڑی مندرجہ بالاقرار داد کےسلسلے میں تمام کار پوریٹ اور قانونی رسی کارروا کیول کومکسل نے اور کمپنی رجئریش آفیسر کے ساتھ ضروری فارمز، درخواشیں اور دستاویزات کیکل میں لانے اور فاکل کرنے کا مجاز اور ب

كى اوركاروبارهل يل لا ناجواجلاس فيل اورچيزين كى اجازت عيش كياجاك

ころいんよう مینی سیریزی

نی کے صفر منتلی کی تمامیں، ۱۲ متر ۲۰۲۲ متر ۲۰۲۲م (جمول دونوں ایام) بندر ہیں گ۔ حارے رجشرار میسرز فی ای کے ایسوی ایش (پراتیویٹ بڑ، بیا ثنمبری 32، جای کمرشل اسٹریٹ 2، ڈینٹس ہاؤسٹک اتھارٹی، فیر ۷۱۱، کرایگ کے دفتر میں ، درست طور پڑھھس کی موصول منتقلیال ، اجلاس میں ت کی غرض ہے بروفت تصور کی جا کیں گی۔

اس میں شرکت کا الل رکن اجلاس میں شرکت کے لئے آلفت وشنید کرنے کے لئے اور دوٹ دینے کیلئے اپنی جگدا ہے ناعب (پراکی) کے طور پر کئی فرد کا تقر سکتا ہے۔ ایسے اٹھین کی تقرری کی اطلاع فعال ہونے کی غرض ہے، مہرشدہ، دستخط شدہ، اور گوائی شدد، اجلاس سے کم از کم اڑتا کیس کھنے قبل کمپنی کے میڈ ں، ایرلڈ ٹادر، وفتر قمبر 1104، گیار ہوال فلور، پاٹ جی 19، بلاک 5، کے ڈی اے امپر وفتت اسکیم 5، کاففش، کراچی میں دینا ضروری ہے۔ ایک رکن کو

ے سے زیادہ نائب مقرر کرنے کا ستحقاق حاصل تیں ہے۔ ڈی ی اکا وَند/ ذیلی اکا وَند كرمال افرادا جلاس ميں شركت كرونت شاخت كركت اپنااص تو في شاختى كارو، اكا وض فبرا و لي اكا وَند فبرا ورى ی میں ورج شرکت کنندہ آئی ڈی قبر فراہم کریں۔ کسی کارپوریٹ ادارے کے صورت میں، اجلاس کے وقت نامزد کردہ کے وستخط کے ساتھ بورڈ آف

ر يكثرزى قرارداد أعارنا مديش كياجائ كالالآب كديد يبلي بيش كرديا كيابو)-ص کنندگان (غیری ڈی می) سے درخواست کی جاتی ہے کہا ہے چوں میں سمی اتبدیلی کی صورت میں فور کی طور پر پمپنی کے شیئر رجشر ارکوا طلاع ویں اور اگر

انفرادی ہوئے کی صورت میں ، ورج بالانو ف (ب) میں مطلع کر دو ضرورت کے مطابق براسی فارم جمع کرانا پرائسی فارم پرددگوابان کی قصدیق موگی جن کے نام، سے اور تو می شاختی کار ڈ نمبر فارم پردرج کئے جا کیں گے۔

مالك انقاع اورناك كوفى ف فاختى كارويا ياسيورث كى تقديق شدونقول يراكس فارم كساتح فراجم كى جاكيس كى-نا ئب اجلاس کے وقت اپنااصل قومی شناختی کارڈیا یا سپورٹ پیش کرےگا۔ کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، پراسی فارم نامزد کردہ کے دستھا کے ساتھ بورد آن ف ڈائر بکٹرز کی قرارداد کھنار نامد پیش کیا جائے گا (الا بیاک

تقسار/مسك/معلومات ك لئے ،اركان ثيمررجشرار ، درج ذيل ي يرابط كر عكمة مين :

عسرى لائف انثورنس كميني لميثية ايرلشاور، وفترتمبر 1104، كيار موال فلور، بلاث جي 19، بلاك 5، كورى اسام وقدف الكيم كالفشن، كراجى رابط فرد: مینی بیریزی

company.secetary@askarilife.com : いい كينزا يك 2017 كيكن 134 (3) كت مادى هاكن كاييان

نقبل بیں مالی آخو ونما اورمر ماید کے افراجات بیں مدد کی مکاز خروریات پوری کرنے کے لئے بھھ کے متعلقی بیں اجراء پرخور کرنے کے لئے معناسب تو ت کی لے لئے ، بورؤ آف ڈ آئز یکٹرز نے اپنی میٹنگ مورد ۱۲۳ اگ - ۲۰۲۱ میں مشتقبل میں ایکوئٹی بڑھانے کے لئے ،میمور مثرم آف ایسوی ایش اور آرفیکو آف ایسو لی شتوں میں متعلقہ ترامیم کے ساتھ مینی کے مجاز تصص سرائے کو 10 روپے فی تصص کے 200,000,000 عام تصص کے 10 روپے فی تصص کے صاب ا،300,000 عام صفص میں تقسیم کئے گئے 3,000,000,000 رویے تک اضافے کی سفارش کی ہے۔ ا۔ پانسرز جھسی یافتگان کی کثیر تعداداوران کے دشتہ دار درج ہالا کارو ہار ش براہ راست پاہالوا۔ طبح پی نہیں رکھتے ماموائے کھپنی میں ان کے لئے سے جھس کی صد تک۔

کمپنی کا مجاز سرماید 10 روپ فی حصص کے حساب سے 300,000,000 لینی کا مجاز سرمایہ 10 روپ فی حصص کے حساب سے تقعص میں تقتیم کئے گئے 3,000,000,000 روپے (تین بلین فقل) ہے۔ 200,000,000 صص بين تشيم كے كے 2,000,000,000 کینی کا مجاز سرمایہ 10 رویے فی حصص کے صاب سے 300,000,000 كىنى كا مجاز سرمايد 10 رويي فى حص كرساب 200,000,000 (وولمين فقط) عام عصص مين تقيم ك (تین بلین فقط) عام حصص میں تقلیم کے 3,000,000,000,000 روپے (تین م 2,000,000,000 دو ہے۔

اغوا كرليا ہے اور كے كى طرف فرار موكے ڈرائیورول نے گاڑیوں روڈ پر چھوڑ انڈی وے روڈ کو بلاک کردیا ہے جس کیج وجہ سے گئ گے تک روڈ بلاک ہوگئ مسلسل وار داتوں کی وجہ۔ ڈاکوؤں کا راج قائم ہو گیا جس کی وجہ سے شہر یو ک جان ومال خطرے میں ہے پولیس حسب د معاطے کو دبانے کی کوشش میں مصروف شہری محفوظ ہیں پولیس چوروں ڈاکوؤں کے آگے ہے! د کھائی دے رہی ہے اس علاوہ کشمور شہرے ایک درجن میز ائد موٹرسائیکلیں ڈاکو ننے مالکان۔

زبردی چین لئے پولیس نے اسوقت تک ڈاکوہ

اور چوروں کےخلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی کشم



حدرآباد: لطيف آباد نبرة كيمرى ميسور لزكاج مان کچرے کا ڈھر اور سیور تک کا گندہ یائی جمع ہے ے اسکول کی طالبات کوشد یدمشکلات کا سامناے

ساتكم من في جيل پر چهاپ جبرى مشقت كاشكار افراد بازيار

ساتکمز(نامه نگار)سانگمزمنگی پولیس کا ایڈ ہ ڈسٹر کٹ اینڈ سیشن جج رسول بخش سوتھی کے فوجى كالونى چكتبر ديس چوبدى اشرف كي زری زمین پرنجی جیل پر چھاپی گزشتہ 15 سال غیر قانونی طور پرجس بیا میں رکے ہوئے چنوال جھیل خاندان کے سات افراد کو بحفاظ بازیاب کروالیا_تفصیلات کےمطابق چنوال؟ نے ڈسٹرکٹ ایڈسیشن ج سانگھٹراجلال حیدر میم ہے خاندان کو غیر قانونی طور پر زمیندار چوہا شرف محرفے جس پیجامیں رکھنے کی درخواست ہے کہ فوجی کالونی چک نبر 03 کے زمیر چوہدری اشرف مجر کی زرعی (باتی صفحہ 10

کی مدد کررے ہیں صیاء کنجار

نواب شاه (نامه نگارخصوصی) مصیبت میں گھر برسات متاثرین کی بنیلز یارٹی سیامی تفریق بالاتر ہوکر خدمت پر یقین رکھتی ہے یہ بات س صوبائی وزیر قانون پیپلز پارٹی شہید بینظیرآ با ڈویزنل صدر ضیا محسن لنجار نے برسات متاثری دادری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو۔ سابق صوبائی وزير قانون نے كہاغير متوقع بار ے تباہ حال برسات متاثرین کی بحالی کے س ندہ حکومت کی ہدایات پر تمام اصلاع کے کشومتحرک ہیں محکر ریونیو کے ڈرید مثاثر یا تفصیلات جع کر کے بلاتا ثیر مستحقین کی اہ سلسلہ شروع کردیا گیا ہے پیپلز پارٹی پریشاؤ اس کھڑی میں سندہ کے موام کے ساتھ کھڑی۔ عى بلاتفريق خدمت پريفين رهتى --



حیدرآباد: ہوسری کے رہائش سیلاب متاثر انظاميك خلاف مظامره كرربي

ملككوبجان كيليح ذيم بنائيں جائيں ٔ جاديد قريثی

مُنْدُوآ وم (نامه نگار)آل يا كتان المجن تا شدھ کے صدر جادید قریقی کی حدایت پر ضلہ کی س متاثرین کے لیے پور سے طلع میں ریلیف قائم ریلیف کیمیس میں متاثرین کے لیے طبح كى مهوات سميت ر مائش، دو وقت كا يكاموا كم فشك راش فراجم كيا جاريا ب-اسموقع پاکستان انجمن تاجران سندھ کے صدر جاوید نے سلاب متاثرین کے لئے قائم ریلیف کیم ريى 50 ريي دوره كيا اورانظامات كاخود جائزه ليا -جاويد نے کہا کہ تاجر برادری اس مشکل کی گھڑ کا میں سالب متاثرين كے ساتھ شاند بشاند كھڑى ہے كى صورت البين تنهائيس چوڙي ڪانبول نے 54 پورے ملک میں برسات سے (باتی صفحہ 0

عارف صبيب كار پوريش كمينز

نولس برائے غیرمعمولی احلاس عام

نوٹس بذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ طارف حبیب کارپوریش لیٹر (کمیٹی) کے صف یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) پروز بدھ 21 ستبر 2022 کوشام 4:30 بنج پاکستان اسٹاک ایمیجیتج ڈیٹوریم،اسٹاک یکیٹی بلڈنگ،اسٹاک یکھٹی روڈ ،کرا پی میں بمعدالیٹر دنگ ز رائے / وڈیولنک کی سہدلت کے ساتھ مندرجہذیل امور کی انجام دی کے منطقہ کیا جائے گا۔

الانداجلاس عام منعقده 28 كتوبر 2021 كى كارروانى كى توثيق-

ن کمپنیزا کمٹ مجریہ 2017 کی فعہ 159 کی شفوں کے مطابق کھی کے ڈائریکٹرز کا تین سالہ ملات کے لئے انتخاب شن کا آغاز 22 ستیر 2022 ہے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قابل انتخاب ڑائر کیلٹرزی تعدادہ تھ(8)مقرر کی جا چی ہے۔ 21 سمبر 2022 کوریٹائر ہونے والے موجود وہ ٹھڈائریکٹرز، جود وہارہ تقرری کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:

2- جناب عارف عبيب 1- جناب الداللة قواجد 3- جنابراج الدين قام

6- جنابكاشف الصبيب 5- جناب سما عميب 8 - محترمازيا بختيار 7- جناب تداعاز

چیزین کی اجازت ہے دیگر کسی امور کی انجام دی۔

كمپيزائيك مجريه 2017 كى دفعه (66) كافخت اجم امور ي متعلق ايك بيانيدنونس بدا سينسلك كر كے قصص يافتگان كوارسال كياجار با ب-- - 2022-131:31

1. کمپنی کا شتنی صعب کی کتب 14 ستمبر 2022ء 2012ء میمبر 2022ء (بیشول دونوں دن) بندر بیل گی، بهارے رجسٹرار میسرزی ڈی کی شیمبتر جہشرار سرمرسز کمبیٹر کے دفتر واقع کی ڈی بی باک بی ایس ایم بی انتخابیس مین شاہر اوفیطس کمبیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو منگل 13 ستمبر 2022ء کو اختتا کمارتک موصول ہونے والی منتقلیال اجلاس بذا بین شرکت اور رائے وی کمیلیے حصص 2. اجلاس ندائیں شرکت اوررائے دی کا کی اہل ممبراتی جانب سے شرکت اور رائے دی کے لیے دوسر معبر کواپنا پروکی مقر کرکستا / کرسکتی ہے جے ممبر کی جاری موات والی مالی ایس کے اور کا سے استعمار اللہ کا ایس کے اور کا میں درج کہایات سمیت طریقہ کار: 3. سکیور شیرائیڈر مجیج کمیش آن یا باکستان کے جاری کردم کرفمبر 1ریفرنس فمبر 3 (13 ے) متفرق اے آراؤ ایل ایس کا 60 مورد 26 جنور کی 2000 میں ورج کہایات سمیت طریقہ کار:

(i) ممران، پراكسيول بانامردا فراد كوابق شانت كے ليے اجلاس مل شركت كے موقع پراصل قون شاختى كارفرياصل پاسپدورٹ بيش كرنا بو كاور پا انوليومبر بمراه الاناموكا۔ ii) کار پوریٹ ادارے کی صورت میں پورڈ آف ڈائر یکٹرزی قراردادا پاورآف اٹارٹی اورنامرد فرد کے قوی شاختی کارڈ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کافی (اگر پہلے فراہم دیگی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے

iii) مؤٹر احمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دیخطاور مہر شدہ اور دو گواہول کے نام، پیتو می شاختی کارڈنبر اور دیخط کے ساتھا جلاس کے انعقادے کم از کم 48 کھنے قبل AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL)

کے دفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔ (iv)انٹرادی صورت ہیں جینیفیش اوٹراور پراکس کے قومی شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں پروکسی فارِم کے ہمراہ شکک کرنی ہوں گی۔ (v) کار پوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت ٹی بورڈ آف ڈائز یکٹرزی قر ارداد کہ یاورآ ف اٹارنی اور پروکسی کے قوی شاختی کارڈیایا سپورٹ کی تصدین شدہ کائی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگ مبران سے درخواست ہے کہتے میں کمی تنم کی تندیلی سے تو یری طور پر AHCL کے شیئز رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کوفوری مطلع کریں اورا چنے کا این آئی می گی کانی فوری طور پر فراہم کریں۔ <u>غیر معمولی اجلاس مام بین آن لائن شرکت</u>: و بانی صورتحال کے باعث ایس ای بی نی کے کمپنیوں کو صص یافت گان اور قوام کے شخط کیلئے معمول کے مطابق اجلاس عام کے انعقادین تبدیلی کی بدایات جاری کی میں لیدائینی اس غیر معولی اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے نیادہ ٹرکت کو بھٹی بنانے کے لیے اتلی بذات تو دموجودگی کے ساتھ ساتھ دوڈ پولنگ کے ذریعے ٹرکت کی سہولت فراہم کرر تی ہے۔ کمپنی نے یہ بندوبست بھی کیا ہے کہ تمام شرکا بشول شیئر مولارزوڈ یولنگ کے ذریعے اجلاس پذاہیں شرکت کریں۔ آن لائن شرکت کے تشخی ممبران سے درخواست ہے کہ مندر جدذیل کوائف اور کی این آئی کی گ

(دونوں اطراف) کالی کے ہمراہ corporate affairs@arifhabibcorp.com) پہنر یوای میل برائے ''رجسٹریشن اے آج کی ایل سے ''کونوان سے اجلاس بنرا کے انتقادے کم از کم اڑتا کیس (48) مجھنظ تیل رجسٹریشن کر الیں۔ ای کیل ایڈریس موبائيل تبر فوليونبراى دى اكادت نيم

EOGM سن شركت كيلنة والي لولك صرف ال مميران كيلية كلمواد جائيكا جن كتمام مطلوبدورست كواكف يرشقل الأميل corporate.affairs@arifhabibcorp.com يرموصول يوكي حصص يافتطان نذكوره اي اميل ايذريس اوروانس ايم نبر 0311-2706624 برايخ ايجنذه أنيثر كميك رائ اور والات بحي ارسال كرسكة بل-

6- وزيولنك سيولت كي فرجى: اگرنيني كواجلاس كے انعقاد سے كم از كم سات (7) روز قبل كى دوس يشهر ش مقيم وي فيمديا زائد شيخ بوللرز كى جانب سے بذريعه وؤيولنك اجلاس بيل شركت كى دوخواست موصول ہونے کی صورت میں ممینی متعلقہ مقام پروڈ یولنگ سہولت کا اہتمام کر کی۔

بذر بعدوذ پولنگ اجلاس بین شرکت کے معنی شیخ مولڈرز سے در تواست ہے کہنی کی ویب سائٹ پر دستیاب " وؤ پولنگ فیسیلٹی فارم" پد کر کے کپنی کے رجسٹرڈ چند پر ارسال کردیں۔ واضح مو کسمبر یا پروسی علاوه كونى فردويد يولنك كالقرس ين شركت كالل جيس موكا-

بذر ایدڈاک کی سپولت متعلقہ توانین کمپنیز (پوشل بیلٹ) ریکولیشنز مجریہ 2018ء کے مطابق فراہم کرے گی۔ وہ صصصی یافتگان جو بذریعدای ووفنگ شرکت کے توابال بی براے مہر باتی اپنے دستھا کروہ ایک خط کے ذریعے سے ، نام، فولیوای ڈی می اکاؤنٹ نمبر،ای میل ایڈریس،رابط، نمبر فی الفورAHCL

8- اُواتر یکٹرز کے انتخاب کا مقابلہ ؛ کوئی بھی فرد (بشول ریٹا ترہونے والا ڈائر یکٹر) جو کہ اُٹریکٹر کے انتخاب کے لیے مقا لیے کا نتواہاں ہو، کمپٹن کے رجسٹرڈ آ فس ، عارف حدیب سینٹر، 123 کم کی خال روڈ، کرا چی میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل کمپنیزا کے 2017 کی زفتہ (3) 159 کے تحت ڈائر بکٹران کے انتخاب کے لئے اپنے کاغذات نامزد کی مندرجہ ذیل وستاویزات کے ساتھ فراہم کردے: -انتخاب از نے کے لئے اپنارادے کے فوس کے ساتھ کمل پر شده اور دستھا شده فارم 28 جس میں نتخب ہونے پر بحیثیت ڈائر یکٹر کام کرنے کی رضامندی (زیروفد (167(1 کمپنیز ایک 2017) اور اس کی بات کی تصدیق کدوہ توانین وضوابط کے تحت وائر بیکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے اور پے دو کینی کے آرٹیکٹر آف ایسوی ایشن کی ثق 89 کے مطابق اہلیت کے لیے حصص رکھے۔ اا تقسیل تعارف (پروفائل) مع وفتری پد بوکیکن کی ویب سائٹ پراسخاب سائٹ پراسخاب عالت روزقبل SRO1196(1)/2019 مورخد 3 اکتوبر 2019 کے تحت آویزال کردیا جاسے گا۔ أأا – اتر ارنامہ کہ وہ لسط کمپنیز (کوڈ آ ف کارپوریٹ گورنٹس) ریگونیشنر 2019 کے تواعد و صوابط پر پورا اترتا ہے اور لسط کمپنی کے ڈائز یکٹر (یابطور آزاو ڈائز یکٹر اگر قابل اطلاق ہو) کے حیثیت سے کام کرنے

ك ليكينزا يك 2017 ك ط كردهمواراليت يريورااترتا ي-الارقى عن التي كارة (CNIC) اوراين في اين (NTN) كى تصديق شده قل-

٧- آزادة الريكفر (الريكفرز) كالسعد كمهينيز (كولا آف كار يوريث كورننس) ريكوليشو 2019 كي تق (3) كالسعد الراساس ٧- نان جوؤيش اسنامب بيير يرحلف نامد كروو كهينز (ميز ايند سكيش آف اند مييز ن و أوريشرز) ريكويشر 2018 كيشق (4(1) كي مطلوبات يربورااترتا/اترتي ب-- شیخر مولارز کی جانب معلومات کی فراہی : تخلف قوانین کی تقیل اور کسی بھی قانون کی مدم تقیل پیاستقبل میں کسی بھی تھے تھے گئے گئے تھام شیخر بولارز کومشورہ دیاجاتا ہے کہ وہ مندرجد فیل معلومات/ دستادیزات این متعلقد شریک ای کی انویسٹرا کافتٹ سروسزا AHCL کیشیئررسٹرار (CDCSRSL) کوفرا ہم کردیں: آ- درست می این آئی می این ٹی این سریفیکیٹ از کوا قاستی سرٹیفیٹ کیکس اسٹی سرٹیفیٹ کی فراہمی -

ii - درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور کریا IBAN کی فراہی تا کہینی متقبل میں نقد منافع مقسمہ کی اوائیگل کر سکے۔ ااا- گذشته فيردعوي شده منافع مقسمه كي تفصيلات كي فراجي-

iv - جوائف اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں پرنسیل شیئر ہولڈراور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے شیئرز کے درمیان تناسب-- فريكل مصص كى اسكر پليس صورت بين تنبه بلى جس سے صصى يافتاك كوكئ انداز سے مولت سالى جس بين محفوظ تحويل ،ستعد فريدوفرونت اورويكركار پوريث كاردوائيوں بين آسانى ہے۔

vi - كمينيزا كيث 2017 كى دفعه 119اوكمپيز (جزل پرويشن ايند قارمز) ريكوبش 2018 كيشن نمبر 19 كيفت لازى رجسطيش كى معلومات كى فراجمي-كمينيزا يك 2017 كادند (3)166 ك قحت بياف لئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم امور پر بینی بیانیہ جیجنا ضروری ہے جس میں منتخب شدہ فرد کی بحیثیت آزاد ڈائر یکٹر تقرری کا جواز

پیش کیاجائے۔ بحیثیت استار کمینی، عارف صبیب کارپوریش کمینٹ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بورڈ میں اسد کمینیز (کوؤ آ ف کارپور ہٹ گورنٹس) ریگولیشتر 2019 کے تھت کم از کم دوآ زاد ڈائریکٹرز دیول۔لہذا کمینی اس بات کو

يقيني بنائے كى كەكم از كم دو7 زاد داز تى كىزىكىنىزا كىك 2017 كى دفعە 159 كىتىت دائزىكىر كەنتخالى طريقە كار كے مطابق منتخب مول-امیدوارل کی جانب سے استخاب لڑنے کے ارادے کی درخواست کی وصولی کے بعد کینی آن داد ائر یکٹر کی تقرری کے لئے درج ذیل طریقہ کا راہا سے گا:

سیدوارں کے نام کی SECP کے باصابط عبان استیٹیوٹ آف کار پوریٹ گورٹس (PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں شھولیت۔ - ایکٹن لائے والے امیدواروں کی متعلقہ صلاحیتوں ہتوج، میارت تعلیم اور جربر کشفیص کی جائے گی۔ - ڈیٹا بینک سے سمی کانام متخب کرنے قبل کہنی جام تشخیص کرے گی کہ ایکٹن لائے والاامیدوار کہنیزا کمٹ 2017 کی وقعہ (2)166کے مطاکر دہ آزادۂ انزیکٹر کے معیار پر پورااتر تاہے۔

رجسطراداوركار يوريسك وسس دومرى منزل، مارف مبيب سنر، 23، ايم في حنان رود كراي، پاكستان . سيليون: 9-21 32460717 92 + ا فيكس: 92 21 32468117, 32429653 12 92 info@arifhabibcorp.com: الكتار | www.arifhabibcorp.com

7- اي دونك روونك فريد اك ي كينيزا يك جريد 2017 مى دفعه (1) 159 كات الله كانتخاب كانتخ

سنگ افغار في فيز ٧١١ براچي

ايوى ايش (پائيويك) كمينيذ

كمينى كيميور فرم آف ايسوى ايش اور آرفيكز آف ايسوى ايش مي ترميم